



میں نے بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ ابطح کی طرف نکلا پھر اذان دی، جب ”حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ“ اور ”حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ“ پر پہنچا تو اپنی گردن دائیں اور بائیں جانب موڑی اور خود نے گھومے

ابو جحیف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دیتے دیکھا، وہ گھوم رہے تھے اپنا چہرہ ادھر اور ادھر پھیر رہے تھے اور ان کی انگلیاں ان کے دونوں کانوں میں تھیں، رسول اللہ ﷺ اپنے سرخ خیمے میں تھے، وہ چمڑے کا تھا، بلال رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے سے نیز لے کر نکلا اور اسے بطحاء (میدان) میں گاڑ دیا پھر رسول اللہ ﷺ نے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی اس نیز کے آگے سے کتے اور گدھے گزر رہے تھے اور آپ کے ایک سرخ چادر پہنے ہوئے تھے، میں گویا آپ کی پنڈلیوں کی سفیدی دیکھ رہا ہوں اور ایک روایت میں ہے کہ ابو جحیف رضی اللہ عنہ نے کہا: میں نے بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ ابطح کی طرف نکلا پھر اذان دی، جب ”حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ“ اور ”حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ“ پر پہنچا تو اپنی گردن دائیں اور بائیں جانب موڑی اور خود نے گھومے

[صحیح] [اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے - اسے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے]

نبی ﷺ نے بالائی مکہ، بطحاء میں پڑاؤ فرمایا تھا چنانچہ بلال رضی اللہ عنہ نبی ﷺ کے وضو کے باقی ماندے پانی کو لے کر باہر آئے تو لوگ اس سے برکت حاصل کرنا شروع کر دیے اور بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی ابو جحیف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بلال رضی اللہ عنہ کے منہ کو دیکھنے لگا وہ ”حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ“ اور ”حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ“ کہتے ہوئے دائیں بائیں مڑ رہے تھے تاکہ سب لوگوں کو یہ سنائی دے سکے کیونکہ ان دونوں جملوں میں نماز کے لیے آنے کی ترغیب ہے پھر نبی ﷺ کے لیے ایک چھوٹا سا نیز گاڑ دیا گیاتا کہ وہ آپ ﷺ کی نماز کے دوران ستر کا کام دے پھر آپ ﷺ نے ظہر کی دو رکعتیں ادا فرمائیں مسافر ہوئے کی وجہ سے آپ ﷺ جب تک مدینہ واپس نہیں آگئے تب تک چار رکعت والی نماز کو دو رکعت ہی پڑھتے رہے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/10618>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

